



جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئی سیریز: پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری کا سنہری موقع ہے، انضمام الحق

لاہور، 10 فروری 2021ء:

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین ٹی ٹوئی انٹرنیشنل سیریز میں شامل میچز 11، 13 اور 14 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہو گا کہ جب دونوں ٹیمیں ٹی ٹوئی فارمیٹ میں اس مقام پر مد مقابل آئیں گی۔

یہ تیرواں موقع ہو گا کہ جب قذافی اسٹیڈیم لاہور کسی انٹرنیشنل ٹی ٹوئی میچ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہاں کھیلے گئے 11 میں سے 7 ٹی ٹوئی انٹرنیشنل میچوں میں کامیابی حاصل کی جبکہ ایک میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔

ٹی ٹوئی کرکٹ کی عالمی رینٹنگ میں پاکستان 259 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم 252 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہے۔

اس موقع پر لیجنڈری بیٹسمین اور پاکستان کے سابق کپتان انضمام الحق کا پی سی بی ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈول ٹی ٹوئی انٹرنیشنل سیریز دونوں ممالک کے لیے آئی سی سی ٹی ٹوئی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا سنہری موقع ہے۔

انہوں نے کہا کہ دونوں اسکواڈز قدرے نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہیں مگر ٹیسٹ سیریز کی فاتح پاکستان کا مورال بلند ہو گا۔

لیجنڈری بیٹسمین نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز اور ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے بعد پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنا کبھی نیشن فائنل کر لے گا، لہذا یہ سیریز نوجوان کھلاڑیوں کے لیے قومی ٹیم میں مستقل جگہ بنانے کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم گراؤنڈ کا ایڈوائٹج ہو گا مگر اس اسکو اڈ کی خاص بات بہترین آلراؤنڈرز کی موجودگی ہے، فہیم اشرف، عماد بٹ، دانش عزیز اور خوشدل شاہ لوئر بیٹنگ آرڈر میں برق رفتار بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انضمام الحق نے کہا کہ پاکستان کا ماضی میں ٹی ٹوئنٹی کی نمبرون ٹیم بننے کی بڑی وجہ بھی آلراؤنڈرز پر انحصار کرنا تھا۔

لیجنڈری کرکٹر نے کہا کہ اسپن باؤلنگ میں عثمان قادر، ظفر گوہر، زاہد محمود اور محمد نواز جیسے باصلاحیت کھلاڑیوں کی موجودگی سے پاکستان کے اعتماد میں اضافہ ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ فاسٹ باؤلنگ کے شعبے میں شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، محمد حسنین اور حسن علی کی دستیابی سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو گا۔

سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم نے کہا کہ بابر اعظم ایون کاسب سے اہم کھلاڑی خود بابر اعظم ہو گا، وہ وائیٹ بال کرکٹ کے شاندار بلے باز ہیں، حریف ٹیم کے لیے ہوم گراؤنڈ میں انہیں قابو کرنا آسان نہیں ہو گا۔ انضمام الحق نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز میں کامیابی سے بابر اعظم کو بطور کپتان بھی بہت اعتماد ملا ہو گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ بابر اعظم کی کپتانی میں دن بدن نکھار آرہا ہے، 18 سال بعد ٹیسٹ سیریز میں جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد اب پاکستان کے پاس دونوں ممالک کے مابین قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈول اس پہلی ٹی ٹوئنٹی سیریز کو جیتنے کا بھی اچھا موقع ہے۔

-ENDS-

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

HELP PREVENT CORONAVIRUS



WASH HANDS KEEP THE DISTANCE AVOID CROWD WEAR MASK COUGH IN THE ELBOW KEEP HYDRATED STAY AT HOME

National Team Partners **Domestic Partners** **Broadcast Partners**



PCB Headquarters
Gaddafi Stadium, Ferozpur Road Lahore, Pakistan, PO Box 54000
Tel: +92 42 35717231-4

pcb.com.pk [f /PakistanCricketBoard](https://www.facebook.com/PakistanCricketBoard) [t /TheRealPCB](https://twitter.com/TheRealPCB) [i /TheRealPCB](https://www.instagram.com/TheRealPCB) [y /PakistanCricketOfficial](https://www.youtube.com/PakistanCricketOfficial)

